

ظہر کو آخری اور عصر کو ابتدائی ٹائم میں پڑھنا

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جب کی مجبوری کی وجہ سے ایسا کر سکتا ہوں کہ ظہر کو آخری وقت میں پڑھوں اور جب عصر شروع ہو جائے تو اس کو ابتدائی وقت میں پڑھ لوں۔ ایسا کرنا کیسا؟

سائلہ: ایک بہن (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

کسی عذر کی وجہ سے ایسا کرنا کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھنا جائز ہے اس کو جمع صوری کہا جاتا ہے اور بلاعذر ایسا نہ کیا جائے کہ نمازوں کو ان کے مستحب اوقات میں ہی پڑھا جائے۔

اور اس پر دلیل سیدی و امامی، قرۃ عینی و سکینۃ قلبی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا:

"من اراد ان یجمع بین الصلاتین بمطر اوسفر اوغیرہ، فلیؤخر الاولیٰ منہما حتیٰ تکون فی آخر وقتہا، ویعجل الثانیۃ حتیٰ یصلیٰ فی اول وقتہا فیجمع بینہما، فتکون کل واحدہ منہما فی وقتہا"

جو شخص بارش، سفر یا کسی اور وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا چاہے تو اس کو چاہئے کہ پہلی کو آخر وقت تک مؤخر کر دے اور دوسری میں جلدی کر کے اول وقت میں ادا کرے، اس طرح دونوں کو جمع کر لے، تاہم ہوگی ہر نماز اپنے وقت میں۔

(کتاب الحجۃ باب الجمع بین الصلاتین مطبوعہ دارالمعارف النعمانیہ لاہور)

(۱۵۹/۱)

اس قول کو تحریر کرنے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں: اس کلام برکت نظام امام کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم سے ظاہر ہوا کہ جواز جمع صوری صرف مرض و سفر پر متصور نہیں بضرورت شدت بارش بھی اجازت ہے۔ اور ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں: تاخیر ظہر کہ عصر سے مل جائے بلکہ یہ بدرجہ اولیٰ (درست ہے) کہ ظہر میں تو کوئی وقت کراہت نہیں۔

(فتاویٰ رضویہ ج 5 ص 161)

وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء

قادری

Date:17-05-2019

Praying at the end and start times

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the noble scholars of the mighty Shari'ah say concerning this matter that due to work constraints can I pray Zhuhr at its end time and then when Asr starts I pray it at its start time?

QUESTIONER: Sister from UK

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

To pray Zhuhr at its end time and Asr at its start time due to an excuse is permissible. This is called combining in outward form only (jam' sūrī) and without an excuse this should not be done, rather prayers should be delivered in their mustahabb timings.

The evidence for this is the statement of Sayyidī, my Imām, the coolness of my eyes and the tranquillity of my heart al-Imām Abū Hanīfah (may Allāh shower him with mercy):

“Whoever intended to join between two prayers due to rain or travel or other reasons he should delay the first to its end time and bring the second forward by delivering in its start time and thus join between them so that each of them is in its own timing.”

[Kitāb al-Hujjah Volume 2 pg 159]

After mentioning this opinion Sayyidī A'la Hazrat al-Imām Ahmad Ridā Khān (may Allāh cover him with mercy) states in al-Fatāwā al-Ridwiyyah:

“This blessed statement of the noble Imām (may Allah be pleased with him) makes it apparent that the permission for combining in outward form only (jam' sūrī) is not only considered in relation to illness and travel but its permission is there also when there is intense rain.”

At another place he mentions:

“Delaying Zhuhr so that it encroaches upon the time of Asr, rather this is more correct because there is no disliked time in Zhuhr.”

[al-Fatāwā al-Ridwiyyah Vol 5 pg 161]

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Translated by Ustādh Ibrār Shafi'